

”قرآنیات“ میں جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا ترجمہ قرآن ”البیان“ شائع کیا گیا ہے۔ یہ قسط سورہ نحل کی آیات ۱۰-۳۲ کے ترجمہ اور حواشی پر مشتمل ہے۔ ان آیات میں توحید سے متعلق بیان کیا گیا ہے اور پرہیزگار، خدا ترسوں کا اچھا اور شرک کرنے والوں کا برا انجام بیان ہوا ہے۔

”معارف نبوی“ میں شاہد رضا صاحب کے مضمون میں مرحوم رشتہ دار کی طرف سے مانی گئی حج کی نذر پوری کرنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ معراج صاحب کے ایک انگریزی مضمون کا اردو ترجمہ ہے۔

”دین و دانش“ کے تحت ابوبیکر صاحب نے اپنے مضمون میں جمہوریت، آمریت اور خلافت کے طرز حکومت کی خصوصیات کو تاریخی پس منظر کے ساتھ واضح کیا ہے۔

”سیر و سوانح“ کے تحت محمد وسیم اختر مفتی صاحب کے مضمون کے پہلے حصے میں جلیل القدر صحابی حضرت شرمیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے ابتدائی حالات زندگی اور ہجرت حبشہ کا ذکر کیا گیا ہے۔

”مقالات“ میں مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی صاحب نے اپنے مضمون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شیبینی ہود (مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا) کے حوالے سے اس روایت کے متعلق علمائے محققین خصوصاً مولانا فراہی کے نقطہ نظر کی وضاحت کی ہے۔

”ادبیات“ میں مولوی محمد اسماعیل میرٹھی صاحب کی ایک نظم ”مناجات“ شائع کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بے کراں کو پکارتے ہوئے دعا و مناجات کی گئی ہیں۔

